

Maulana Azad National Urdu University

Department of Economics

PG Programme

III Semester Examination, November/December 2025

Course Code: **MAEC301DST**

Subject: **Islamic Banking and Finance**

Total Marks: 70

Time: 3 Hours

ہدایات:

- یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔
1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہوں پر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں ہر سوال کا جواب لازمی ہے ہر سوال کے لیے 1 نمبر ہے
(10x1=10 marks)
2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریباً (200) لفظوں پر مشتمل ہو۔
(5x6=30 marks) ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریباً (500) لفظوں پر مشتمل۔
(3x10=30 marks) ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں

حصہ اول

1.

(1) اسلامی بینکاری میں کرنٹ اکاؤنٹ عموماً کس اصول پر چلایا جاتا ہے؟

(a) قرض حسن (فلاحی قرض)

(b) مضاربہ (شریک منافع (Profit-Sharing)

(c) مشارکہ (شراکت داری)

(d) اجارہ (leasing)

(2) مضاربہ بنیادی طور پر مشارکہ سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس میں

(a) دونوں فریقین سرمایہ فراہم کرتے ہیں

(b) صرف ایک فریق سرمایہ دیتا ہے اور دوسرا محنت / مہارت کرتا ہے

(c) یہ مقررہ نفع پر مبنی ہوتا ہے

(d) سود کی ادائیگی کی اجازت ہوتی ہے

(3) اسلامی مالیاتی قانون (فقہ المعاملات) کا بنیادی مقصد یہ ہے،

(a) منافع کو بڑھانا

(b) معاملات میں سماجی انصاف اور دیانت داری کو یقینی بنانا

- (c) قیاس آرائیوں کی حوصلہ افزائی کرنا
- (d) سودی قرض کی اجازت دینا
- (4) اسلامی بینکاری کے سماجی مقصد میں ----- شامل ہے،
- (a) قلیل مدتی منافع میں اضافہ کرنا
- (b) اخلاقی (Ethical) سرمایہ کاری اور غربت میں کمی کرنا
- (c) فلاحی کاموں سے گریز کرنا
- (d) سودی تجارت کی حوصلہ افزائی کرنا
- (5) 1983 کے غیر سودی بینکاری قانون (Usury-Free Banking law) کے تحت مکمل اسلامی بینکاری نظام کس ملک میں چلایا جا رہا ہے؟
- (a) ملائیشیا
- (b) ایران
- (c) ترکی
- (d) بحرین
- (6) اسلامی بینکاری کی ترقی میں ایک اہم ترین ادارہ میزان بینک ہے۔ جو اس ملک میں ہے۔
- (a) پاکستان
- (b) ملائیشیا
- (c) برطانیہ
- (d) قزاقستان
- (7) درج ذیل میں سے کون سا ملک اسلامی اور روایتی بینکاری کے مربوط نظام کے لیے مشہور ہے؟
- (a) قزاقستان
- (b) ملائیشیا
- (c) ایران
- (d) سوڈان
- (8) AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) کا مرکزی دفتر کہاں واقع ہے؟
- (a) قطر
- (b) بحرین
- (c) سعودی عرب
- (d) متحدہ عرب امارات
- (9) جدید اسلامی بینکاری کا ابتدائی تجربہ، میت غز (1960) ----- کس ملک سے وابستہ ہے؟
- (a) ایران
- (b) مصر

(c) پاکستان

(d) قزاقستان

10) الریان بینک، جو کہ غیر مسلم اکثریتی ملک میں ایک بڑا اسلامی بینک ہے، ----- واقع ہے؟

(a) کینیڈا

(b) جنوبی افریقہ

(c) برطانیہ

(d) آسٹریلیا

حصہ دوم

2. غرر کے اصول اور مالیاتی معاہدوں پر اس کے اثرات کی وضاحت کریں۔

3. اسلامی مالیاتی اداروں میں شریعہ نگرانی بورڈ کے کردار اور افعال کا تجزیہ کریں۔

4. اسلامی مالیات میں بیع سلم اور استصناع کے معاہدات کی مختصر وضاحت کیجیے۔

5. اسلامی بینک سماجی انصاف اور منصفانہ ترقی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟

6. اسلامی بینک اور روایتی بینکوں کے درمیان تعاون میں درپیش اہم مسائل کیا ہیں؟ بیان کیجیے۔

7. مصر میں مت غمر (Mit Ghamar) تجربے نے اسلامی بینکاری کی تشکیل میں کیا تاریخی کردار ادا کیا؟

8. دوہری بینکاری نظام کو بینک نگار ملائیشیا کس طرح مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے؟ بیان کیجیے۔

9. شرعی اصولوں کے مطابق مالیات کے مختلف طریقوں (مثلاً مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، اجارہ، بیع سلم، استصناع) پر بحث کریں اور جدید اسلامی بینکاری میں ان کی عملی اہمیت کا جائزہ لیں۔

حصہ سوم

10. اسلامی مالیاتی قانون (فقہ المعاملات) کی وضاحت کیجیے۔ انصاف و شفافیت کو یقینی بنانے میں اسلامی مالیاتی قانون کے اصول اور مقاصد کے کردار کو بیان کیجیے۔

11. اسلامی بینکوں اور روایتی مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون کے دائرہ کار اور درپیش مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کامیاب عملی ماڈلز کی مثالیں بیان کیجیے۔

12. معاشی ترقی میں اسلامی بینکوں کے شراکت کا جائزہ لیں، خاص طور پر مالی شمولیت، کار جوئی (Entrepreneurship) کے فروغ، اور غربت کے خاتمے کے حوالے سے ان کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔

13. اسلامی بینکاری میں اختراعات اور ڈیجیٹل تبدیلی کے حوالے سے ملائیشیا اور انڈونیشیا کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے۔

14. سوڈان کے مکمل اسلامی بینکاری نظام نے دیہی مالیات پر کیا اثرات ڈالے ہیں؟ مختصر اوضاحت کیجیے۔